

صوبائی اسمبلی شمال مغربی سرحدی صوبہ

صوبائی اسمبلی کا اجلاس، اسمبلی چیمبر پشاور میں بروز منگل مورخہ 12 اگست 2008ء بمطابق 9 شعبان 1429ھ صبح دس بجکر چالیس منٹ پر منعقد ہوا۔
جناب سپیکر، کرامت اللہ خان مسند صدارت پر متمکن ہوئے۔

تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

قُلِ اَللّٰهُمَّ مَلِكٌ مَّسَلِكٌ تُوْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّقُ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ اَلْخَیْرُ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔

(ترجمہ): کہو کہ اے خدا (اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

سید محمد علی شاہ: سپیکر صاحب۔

اراکین کی رخصت

جناب سپیکر: ذرا ہاؤس کی وہ Complete کرنے دو پھر۔ چند معزز اراکین اسمبلی نے رخصت کیلئے درخواستیں ارسال کی ہیں جن کے اسمائے گرامی ہیں: جناب عنایت اللہ خان جدون صاحب، آج یعنی 12 اگست 2008 کیلئے: جناب مفتی کفایت اللہ صاحب، 12 اگست 2008 یعنی آج کیلئے: جناب وجیہ الزمان خان، ایم پی اے، 12 اور 13 اگست 2008 یعنی آج اور کل کیلئے: جناب عطیف الرحمان صاحب، ایم پی اے، پورے اجلاس کیلئے، جو میں ایوان کی منظوری کیلئے پیش کرتا ہوں۔

(تحریک منظور کی گئی)

مسند نشین حضرات کی نامزدگی

Mr. Speaker: Item No. 3, 'Panel of Chairmen'. In pursuance of sub rule (1) of rule 14 of the Provincial Assembly of North-West Frontier Province Procedure and Conduct of Business Rules, 1988, I hereby nominate the following Members, in order of priority, to form a Panel of Chairmen for the current session:

- 1) Mr. Abdul Akbar Khan, MPA;
- 2) Mr. Ghani Dad Khan, MPA;
- 3) Mr. Wajih uz Zaman Khan, MPA; and
- 4) Hafiz Akhtar Ali, MPA.

عرضداشتوں کے بارے میں مجلس کی تشکیل

Mr. Speaker: Item No. 4, 'Committee on Petitions'. In pursuance of rule 116 of the Provincial Assembly of North-West Frontier Province Procedure and Conduct of Business Rules, 1988, I hereby constitute a Committee on Petitions comprising the following Members under the Chairmanship of Mr. Khushdil Khan, Honourable Deputy Speaker:

- 1) Mr. Abdul Akbar Khan, MPA;
- 2) Mr. Shakeel Bashir Umarzai, MPA;
- 3) Engineer Javed Iqbal Tarakai, MPA;
- 4) Dr. Iqbal Din, MPA;
- 5) Sardar Aurangzeb Nalotha, MPA; and
- 6) Mr. Muhammad Anwar Khan Advocate, MPA.

ملک کی سیاسی صورتحال پر بحث

جناب سپیکر: 'Discussion on political situation in the country'، جی جناب بشیر بلور صاحب۔

سید محمد علی شاہ: جناب سپیکر صاحب۔

Mr. Speaker: After him.

جناب بشیر احمد بلور [سینیئر وزیر (بلدیات)]: سپیکر صاحب، پیرہ شکر یہ۔

سید محمد علی شاہ: د قاضی اسد صاحب مور وفات شوے دہ، د ہغے پہ حق کبن دعائے مغفرت او کړئ جی۔

جناب سپیکر: ایک منٹ جی، ذرا ان کو دعا کرنے دیکھئے، بشیر بلور صاحب۔ جی، حافظ اختر علی صاحب، دے کبن سیلاب زدگان ہم شامل کړئ۔ مولانا صاحب، مولانا صاحب دعا او کړئ جی۔ حافظ اختر علی صاحب، حافظ اختر علی صاحب۔

(اس مرحلہ پر دعائے مغفرت کی گئی)

جناب سپیکر: جناب بشیر بلور صاحب۔

سینیئر وزیر (بلدیات): جناب سپیکر صاحب، ستاسو پیر زیات شکر گزار یمہ چہ تاسو نن ما تہ اجازت راکرو چہ زہ پہ دے اہم مسئلے باندے خبرے او کرم۔ سپیکر صاحب، تاسو تہ دا۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: یہ آواز ٹھیک نہیں ہے۔

سینیئر وزیر (بلدیات): تاسو تہ علم دے سپیکر صاحب، چہ زمونہ بدقسمتی دہ چہ کلہ نہ پاکستان جوہ دے نو ہمیشہ پکتیتران راغلی دی او زمونہ پہ دے جمہوری حکومتونو باندے ئے شب خون وھلے۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: مائیک۔۔۔۔۔

سینیئر وزیر (بلدیات): چہ کلہ نہ پاکستان جوہ دے سپیکر صاحب، ہمیشہ پکتیتران راغلی دی او زمونہ پہ دے ڈیموکریٹک حکومتونو باندے شب خون ئے وھلے دے۔۔۔۔۔

ایک آواز: دا مائیک بدل کړئ جی، بل مائیک تہ لار شی۔

سینیئر وزیر (بلديات): جناب سپیکر صاحب، ستاسو شکر گزار یمہ چہ تاسو ما تہ پہ دے اہم مسئلے باندے د خبرو کولو اجازت راکرو۔ زمونر بدقسمتی دہ چہ کلہ نہ پاکستان جوڑ دے سپیکر صاحب، ہمیشہ ڈکٹیٹران راغلی دی او زمونر پہ دے ڈیموکریٹک حکومتونو باندے ہمیشہ شب خون ئے وھلے دے او ہغہ ڈیموکریٹک سسٹم ئے ختم کرے دے او بیا چہ کلہ ختم شوے دے او چہ کلہ بیا ڈیموکریسی راشی، خلق ووت ورکری او ہغہ چہ کوم ڈکٹیٹری وی، ہغہ پہ آرام کور تہ لارشی او آرمی بیا ٹیک اوور اوکری او بیا خہ ورخے پس الیکشن اووشی۔ دانن یو تاریخی ورخ دہ او تاریخی ورخ پہ دے جوڑہ شوہ چہ دے وخت کبن یو آمر، یو ڈکٹیٹر چہ لس کالہ، اتہ کالہ دے ملک کبن ئے حکومت اوکرو او ہغہ دے حکومت کبن چہ کوم کارونہ کری دی، ہغہ خوزما خیال دے چہ تاسو کہ دا Impeachment چہ کوم یو زمونر مرکز کبن، مشران چہ کوم د Impeachment ہغہ Documents جوڑوی، زما خیال دے ہغہ بہ تاسو اوگورئی چہ ہغے کبن خومرہ لوے زیاتی دے ملک سرہ دوئی کری دی۔ تولو نہ مخکبن تاسو اوگورئی سپیکر صاحب، نن د بجلئی دا حال دے چہ تولا پاکستان کبن لوڈ شیدنگ کیری او دوئی چرتہ دے اتہ کالو کبن، ڈیرے لویے دعوے ئے کرے وے، چرتہ دیو یونٹ بجلئی د پارہ ئے ہم چرتہ کوشش نہ دے کرے او بیا Law and order situation تاسو اوگورئی نن د دے خارجی او داخلی پالیسو پہ وجہ باندے ملک داسے حالات جنگ کبن روان دے۔ تاسو سپیکر صاحب، مہنگائی تہ اوگورئی، دا اتہ کالہ چہ کوم زیاتے دے قوم سرہ شوے دے دا یو تاریخی حصہ دہ۔ زہ خپل مرکزی قیادت تہ خاصکر زرداری صاحب تہ، نواز شریف صاحب تہ، مولانا فضل الرحمن صاحب تہ او جناب اسفندیار ولی خان تہ مبارکباد ورکوم چہ ہغوی داسے وخت کبن چہ یو ڈکٹیٹر، یو آمر، (تالیان) یو ڈکٹیٹر، یو آمر، ہغہ اوس ہم De facto President دے او د پاکستان تاریخ کبن پہلا گل داسے اوشول چہ دا مشران ناست دی او دوئی دومرہ لوے ہمت اوکرو او دا تولا سیاسی جماعتونہ ورسرہ دی د خدائے فضل سرہ چہ داسے سرے چہ ہغہ دے ملک سرہ زیاتے کرے دے، ہغہ سرے چہ یو Elected Prime Minister ئے پہ ہتھکرو باندے ترلے وو او پہ جہاز کبن ئے داسے پہ ہتھکرو

باندے تہلے کراچی تہ لہرلے وو او بیا چہ کوم دا نیب ئے جوہ کرے وو، د سیاسی خلقو د پارہ یو داسے عذاب وو، تاسو دا زمونہ پرائم منسٹر صاحب چہ ناست دے، جاوید ہاشمی صاحب، دغہ شان لوے لوے لیڈرانو تہ لو لوس لس کالہ، اووہ اووہ کالہ جیلونہ ئے تیر کری دی او بغیر د خہ وجے نہ، نو سپیکر صاحب، داسے حالاتو کبن مشران کبنینا ستل او دومرہ لوے او تاریخی قدم ئے اوچت کرو چہ ہغہ Impeachment د پارہ خپل جواز جوہروی۔ سپیکر صاحب، گوچہ زمونہ د دے صوبائی اسمبلی دے Impeachment کبن داسے ہیخ قانونی کردار نشتہ ولے چہ دا خو صرف د پریذیدنٹ صاحب الیکٹورل کالج وو او پہ دے الیکٹورل کالج کبن ہغہ وخت چہ کوم وخت د دوئی الیکشن شوے وو، دے گناہ کبن ہم مونہ شامل نہ وو، مونہ ہغہ وخت کبن ہم واک آؤت کرے وو او مونہ ہغوی تہ نہ ووٹ ور کرے وو او نہ ہغے ووٹنگ کبن مونہ حصہ اغستے وہ۔ چہ مونہ واک آؤت نہ وو کرے، نو وئیلے چہ نہ جی دوئی خو الیکشن بیللے دے، پہ دے وجہ ناست یو خو مونہ پہ دے واک آؤت او کرو چہ دا دکھتیر، دا آمر مونہ د ہغہ وخت ہم صدر تسلیم کرے نہ دے او زمونہ دا ایمان دے چہ مونہ ہغہ وخت ہم دا وئیلی وو چہ مونہ نہ دے وردئی کبن تسلیموو او نہ ئے بغیر د وردئی تسلیموو، زمونہ د پارٹی پالیسی دا وہ۔ دیکبن اوس خدائے داسے موقع راکرلہ او خدائے د ہمیشہ ساتی زمونہ سیاسی مشران چہ ہغوی سیاست او جمہوریت د پارہ خپل ہر خہ قربانوی۔ تاسو تہ بہ علم وی سپیکر صاحب، پرون زرداری صاحب وئیلی وو چہ ما تہ آفر شوے وو چہ مرکزی حکومت بہ ہم ستا وی، خلور صوبے بہ ہم ستا وی خو تہ بہ ما سرہ مرستہ کومے خو ہغوی او وئیل چہ نہ، زہ جمہوری قوتونو سرہ بہ ہم۔ (تالیان) مولانا فضل الرحمن صاحب تہ ہم آفر شوے وو خو ہغوی ہم جمہوری قوتونو سرہ، دے دیمو کریسی سرہ خپل ہغہ ترون مات نہ کرو۔ سپیکر صاحب، مونہ ہم ڍیر ورکو تہے غوندے پارٹی یو او مونہ تہ ہم، زہ تاسو تہ دا پہ فلور آف دی ہاؤس وایم چہ اسفندیار خان تہ د وزیر اعظم آفر ہم شوے وو خو مونہ وئیل چہ نہ مونہ بہ خپل جمہوری قوتونو سرہ خو او مونہ خپل ملگرو سرہ بہ خو۔ (تالیان) نو سپیکر صاحب، دے حالاتو کبن زمونہ د لیڈر شپ، د تہولو، نواز شریف

صاحب خو خیر ہسے ہم زمونر مشر دے ، دویم جی داسے کردار ، زما پہ خیال پاکستان کبن داسے یوہ سیاسی ڍلہ نہ وہ چه هغه دے وخت کبن خپل کردار نہ وی ادا کرے او داسے د جمہوریت د پارہ ، د ڊیموکریسی د پارہ د یو والی اظہار ئے او کرو او نن مونر د دے جوگہ شولو چه دنیا ته او بنا یو چه پاکستانی عوام جمہوریت د پارہ خپل هر خہ قربانوی او دے خپل ملک کبن جمہوریت غواری۔ سپیکر صاحب ، بدقسمتی دا دہ چه جمہوریت ولے خلق غواری او د دے ډ کٹیتر شپ ولے خلاف وی؟ جمہوریت کبن دا یو حسن دے چه مونر ناست یو ، مونر دلته خبرہ کوؤ ، زمونر خبرے چه دی ، وزیر اعلیٰ صاحب به ہم خبرہ او کری نو هر چا ته حق دے چه د هغه خلاف پاخی او اعتراض او کری۔ Collective فیصلہ یو داسے کار وی چه هغه د عوامو بئیکرے ته خی او Individual فیصلے ہم داسے وی لکه خنگہ چه دے زمونر پریذیدنٔ صاحب چه کول۔ تاسو ته سپیکر صاحب ، علم دے چه 'U-Turn' په یوہ شپہ کبن یا خو ئے دومرہ خان بہادر کرو چه ما کارگل کبن داسے او کول ، ما کارگل کبن داسے او کول ، د کارگل ہیر و خان نہ جوړوی ، هغه ہم تاسو اولیدل ، تاریخ گواہ دے چه هغه کبن خومرہ Defeat چه دے ، دا چه خومرہ زیاتی زمونر د Armed Forces سرہ شوی دی ، هغه د دے جرنیل پہ وجہ شوی وو او دومرہ مری شوی وو چه د هغه حساب کتاب به اوس انشاء اللہ دا حکومت ورسره کوی چه دا کوم کوم زیاتی ئے کری دی هغه کارگل کبن۔ سپیکر صاحب ، د دے خبرے چه کوم دوی ہمیشہ دا وئیل چه بارہ می باندے زمونر هلته خلق مرہ کیدل کراچی کبن او دے او دریدو او دے وائی چه "میری طاقت کا مظاہرہ دیکھا آپ نے کراچی میں" نو سپیکر صاحب ، دا یو صدر ولاړ وی او قوم مری او دے وائی چه "میری طاقت کا مظاہرہ" هلته زمونر بیچی مرہ کیدل ، زمونر ورونرہ مرہ کیدل کراچی کبن ، خلویبنت کسان شہیدان شول او دہ دلته ډمامے غرولے په اسلام آباد کبن ، نو سپیکر صاحب ، داسے سرے چه هغه زمونر دے ملک د پارہ یو زهر قاتل دے او وو ، دے د پارہ به تاسو ته زہ خواست کوم ، مونر دا فیصلہ کرے دہ ، پارلیمانی لیڈران صاحبان ټول ناست دی چه مونر به ، هر یو مشر به پاخی او هغه به قرارداد پیش کوی ، د دے د پارہ زہ تاسو ته خواست کوم چه ما ته اجازت را کړئ او رول 240 لاندے رول 124 سب رول (2)

د Suspend کرے شی چہ زہ قرارداد پیش کریم او ما نہ پس بہ زما مشران ہم قرارداد پیش کوی۔ زہ بہ ستاسو مشکور یمہ چہ تاسو ہاؤس نہ تپوس او کپری چہ ما تہ اجازت راکری چہ زہ دا قرارداد پیش کریم نو د رول 240 لاندے رول 124 سب رول (2) د Suspend کرے شی۔

جناب عبدالاکبر خان: پوائنٹ آف آرڈر، جناب سپیکر۔ چونکہ آپ نے ایجنڈے میں بھی سیاسی صورت حال۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: جی عبدالاکبر خان۔

جناب عبدالاکبر خان: آپ نے ایجنڈے میں بھی سیاسی صورت حال پر بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ بحث کر لیں۔ اس کے بعد جو تجویز ہوگی کہ جو ممبران صاحبان اس صورت حال پر بحث کرنا چاہتے ہیں، وہ بحث کر لیں۔ اس کے بعد جو قرارداد یہ لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے لیکن قرارداد اگر پاس ہوگی تو پھر ہمارے بولنے سے یا کسی اور کے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ (تالیاں)

سینیئر وزیر (بلدیات): اس کو ایسے طریقے سے پیش کیا جائے کہ بعد میں آپ اس پر۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: جی، رحیم داد خان صاحب۔

جناب رحیم داد خان [سینیئر وزیر (منصوبہ بندی و ترقی)]: جناب سپیکر، زہ ستاسو شکریہ ادا کوم۔ بشیر خان چہ کومہ خبرہ او کپہ دا رولز Relax کولو د پارہ، دا د ملک د بقاء د پارہ او د جمہوریت د استحکام د پارہ دیرہ ضروری دہ، نو دے لہ Priority ور کول پکار دی۔ رولز د Relax شی چہ قرارداد پیش شی۔

جناب سپیکر: جی، پیر صابر شاہ صاحب۔

سینیئر وزیر (بلدیات): سپیکر صاحب! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں نے عبدالاکبر خان سے بھی ریکویسٹ کر لی ہے، اگر مجھے قرارداد پیش کرنے کی اجازت دے دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اگر ہاؤس سے آپ پوچھ لیں تو۔

جناب عبدالاکبر خان: جناب سپیکر! ہمیں اس کے بعد بولنے کا اگر موقع دیں تو بس ٹھیک ہے، اس کے بعد دے دیں۔

سینیئر وزیر (بلدیات): ہاں، اس کے بعد بیٹھ بولیں۔ اس کے بعد بیٹھ بولیں جب۔۔۔۔۔

سید محمد صابر شاہ: بس ٹھیک ہے جی، قرارداد پاس ہونے دیں پھر اس کے بعد ہم اس پر بولیں گے۔

قاعدہ کا معطل کیا جانا

جناب سپیکر: معزز وزراء صاحبان اور معزز ممبران صاحبان نے رول 124 کو رول 240 کے تحت Suspend کرنے کی التجاء کی ہے تاکہ انہیں قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی جائے تو آیا معزز ایوان اس کی اجازت دیتا ہے؟ جو اس کے حق میں ہیں، وہ ہاں، میں جواب دیں اور جو اس کے مخالف ہیں، وہ ناں، میں جواب دیں۔

(تحریک منظور کی گئی)

جناب سپیکر: جی ہاں، قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ معزز وزیر صاحب۔

قرارداد

سینیئر وزیر (بلدیات): میں سارے ہاؤس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مہربانی کی اور مجھے اجازت دی کہ میں قرارداد پیش کروں۔ جناب سپیکر صاحب۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: داخہ وائی؟

سینیئر وزیر (بلدیات): اوس آواز تھپیک دے جی؟ آواز راخی؟ مجھے وہاں بھی اعتراض نہیں ہے، میں وہاں پانچ سال بیٹھا رہا ہوں، پانچ سال بیٹھا رہا ہوں وہاں پر میں بھی۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: بشیر بلور صاحب جہاں جاتے ہیں، وہاں مائیک خراب ہو جاتا ہے۔ (تمتھے)

سینیئر وزیر (بلدیات): بد قسمتی سے یہ آپ کی اور پرویز مشرف کی کوئی سازش ہے جو یہ مائیک خراب ہیں۔

جناب سپیکر: بسم اللہ پڑھیں جی، بسم اللہ پڑھیں۔

سینیئر وزیر (بلدیات): میں شکر گزار ہوں پورے ہاؤس کا اور آپ کا سپیکر صاحب، کہ آپ نے مجھے اجازت دی۔

The Pakhtoonkhwa Assembly observes:

1. that under Article 41 of the Constitution of the Islamic__

آواز نہ راخی؟

آوازیں: دلنہ جی۔ ادھر آجائیں جی، اس مائیک پہ آجائیں۔

(شور)

میاں نثار گل کا کاخیل (وزیر جیلخانہ جات): جناب سپیکر!۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: بشیر بلور صاحب کو پیش کرنے دیں پھر۔۔۔ پرویز خان! آپ بیٹھ جائیں۔

وزیر جیلخانہ جات: جناب سپیکر، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس ایوان کا جو سائڈ سسٹم ہے، اس

کے متعلق ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے ایک موقع دے دیں، سر۔ یہ سائڈ سسٹم جناب، یہ

اسمبلی ہال بنانا ہوا ہے اور میرے خیال میں یہ بشیر بلور صاحب۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: اس کے بعد یہ باتیں کریں گے۔ جی بشیر بلور صاحب، آپ پیش کریں قرارداد۔

سینیئر وزیر (بلدیات): جناب سپیکر صاحب دیرہ مہربانی۔

The Pakhtoonkhwa Assembly observes:

1. that under Article 41 of the Constitution of the.....

جناب سپیکر: کچھ سمجھ نہیں آرہی، ادھر آ جائیں۔

آوازیں: سر، اس طرف آ جائیں، یہ ڈیک ٹھیک ہے، اس طرف آ جائیں۔ (تمتے) دلته راخی

جی۔

(شور)

سینیئر وزیر (بلدیات): اوس آواز راخی جی؟ سپیکر صاحب، زہ ستاسو او د دے تبول

ھاؤس شکر گزار یمہ چہ دوئی ما تہ اجازت را کرو چہ زہ دا قرارداد پیش کرم۔

Janab Speaker Sahib! the Pakhtoonkhwa Assembly observes:

1. that under Article 41 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Pakhtoonkhwa Assembly is a part of the electoral college for the election of the office of the President of Pakistan;

2. that notwithstanding the Pakhtoonkhwa Assembly's objection to the validity or legality of the elections held in October, 2007, for the office of the President of Pakistan, we are of the view that General ® Pervez Musharaf is unfit to hold the office of the President by virtue of being guilty of violating the Constitution of Pakistan and/or of gross misconduct on the following amongst other grounds:

- i. that General ® Pervez Musharaf has subverted the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan twice by holding it in abeyance;
- ii. he has violated and undermined the Constitution of

- the Islamic Republic of Pakistan and derailed the transition of democracy;
- iii. that in terms of Article 41, sub section (1) of the Constitution, the office of the President represents the unity of the Republic, General ® Pervez Musharaf has violated the same and has caused to promote inter provincial tension, a deepened sense of deprivation, denied provincial autonomy thus leading to the weakening of the Federation;
 - iv. that the policies pursued by General ® Pervez Musharaf during the last eight years have brought Pakistan to the brink of a critical political and economic impasse. The incompetence and failures of his policies has plunged the country into the worst power shortage in its history and brought unprecedented misery upon the people. His policies have paralyzed the Federation and eroded the trust of the Nation in key National Institutions. Moreover, it is a matter of record that General ® Pervez Musharaf has made a public pledge before the Nation and it was widely covered by the print and electronic media that he will doff his uniform by December 31, 2004. But he went back on the promise and betrayed the Nation;
 - v. that the blatant anti-Pakhtoons policies of General ® Pervez Musharaf have led to serious economic deprivation and security crisis in the Province and FATA. The flawed internal and external policies of his dictatorial regime have resulted in the large scale murder of innocent people of our Province and FATA.

In the light of the above, we hereby call upon General ® Pervez Musharaf to take a vote of confidence from his electoral college or resign in terms of Article 44 sub-section (3) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan immediately. In case he fails to do so we call upon and urge Parliament to give notice of impeachment in accordance with Article 47 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.

سپیکر صاحب! زہ بہ ڀیر زیات شکر گزار یمہ، ستاسو شکر گزار یمہ، د ٽول
هاؤس شکر گزار یمہ چه دوی دا زما ریکویسٹ واوریڊو۔ اوس درانی صاحب
به مهربانی کوی، هغوی به دا قرارداد پیش کری۔

جناب سپیکر: اکرم خان درانی صاحب۔

محترمہ نگہت یاسمین اور کرنی: جناب سپیکر صاحب! قرارداد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

Voices: Go Musharaf go.....

(تالیاں / شور)

Mr. Speaker: Order, order please.....

Voices: Go Musharaf go.....

(تالیاں / شور)

Mr. Speaker: Order please, order please.....

Voices: Go Musharaf go.....

(تالیاں / شور)

Mr. Speaker: Order, order please, order please.....

Voices: Go Musharaf go.....

(تالیاں / شور)

Mr. Speaker: Order please, order please.

Voices: Go Musharaf go.

(تالیاں / شور)

Mr. Speaker: Order please, order please, orde please.....

Voices: Go Musharaf go, go Musharaf go, go Musharaf go.....

(تالیاں / شور)

Mr. Speaker: Order please, order please, orde please.....

Voices: Go Musharaf go, go Musharaf go, go Musharaf go.....

(تالیاں / شور)

جناب سپیکر: دا بنخے د واره کبینوہ، د واره کبینوہ۔ آرڈر، آرڈر پلیز، آرڈر پلیز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(شور)

جناب سپیکر: آرڈر پلیز، آرڈر پلیز، آپ کو بعد میں پورا موقع دونگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(شور)

جناب سپیکر: درانی صاحب، اکرم خان درانی صاحب، اپنی قرارداد پیش کریں۔ اکرم خان درانی صاحب۔
جناب اکرم خان درانی (قائد حزب اختلاف): بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سپیکر صاحب! آپ کا شکریہ اور
آپ کے پورے اس معزز ایوان کا شکریہ۔ پختونخوا سبلی کی قرارداد کا مسودہ۔
پختونخوا سبلی سمجھتی ہے کہ:

1- اسلامی جمہوریہ پاکستان۔۔۔۔۔

(شور)

آوازیں: اس کو سپیکر صاحب، تاسو کنبینوئی، کنبینہ، بٹھادواس کو۔۔۔۔۔
قائد حزب اختلاف: کے آئین کی شق نمبر 41 کے تحت پختونخوا سبلی صدر پاکستان کے انتخاب کیلئے انتخابی
حلقے کا حصہ ہے:

2- تاہم درج ذیل آراء کی روشنی میں اکتوبر 2007ء میں صدر پاکستان کے عہدے کے انتخاب
کی صحت اور قانونی حیثیت کے بارے میں پختونخوا سبلی کو اعتراض ہے،
3- کہ آئین پاکستان سے مجرمانہ روگردانی اور یادرج ذیل حقائق کی بنیاد پر شدید خلاف ورزیوں
کے پیش نظر جنرل (ر) پرویز مشرف صدر پاکستان کا عہدہ رکھنے کیلئے نااہل ہیں،
I- کہ جنرل (ر) پرویز مشرف نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین دو دو بار معطل کر کے
اسے تہہ وبالا کیا۔۔۔۔۔

(شور)

قائد حزب اختلاف: II- کہ اس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو۔۔۔۔۔

(شور)

قائد حزب اختلاف: پس پشت ڈالا اور جمہوری عمل کو پٹری سے اتارا۔
III- کہ آئین کے آرٹیکل (1) 41 کی روح کے تحت صدر پاکستان کا عہدہ ملک کے اتحاد کی
نمائندگی کرتا ہے۔ جنرل (ر) پرویز مشرف نے اس سے روگردانی کرتے ہوئے۔۔۔۔۔

(شور)

قائد حزب اختلاف: صوبوں کے مابین تناؤ کو فروغ دیا۔۔۔۔۔

(شور)

نہ وہ ملاؤ شوے چہ زمونہ دے ملک باندے ئے کومے کومے تجربے اوکھے ،
خو خیر "دیر آید درست آید"۔ زہ اوس ستاسو پہ اجازت باندے قرارداد Move
کومہ۔

The Pakhtoonkhwa/N.W.F.P Assembly observes:

1. that under Article 41 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Pakhtoonkhwa/NWFP Assembly is a part of the electoral college for the election of the Office of the President of Pakistan:
2. that notwithstanding the Pakhtoonkhwa/N.W.F.P Assembly's objection to the validity or legality of the elections held in October 2007 for the office of the President of Pakistan we are of the view that General ® Parvez Musharraf is unfit to hold the Office of the President by virtue of being guilty of violating the Constitution of Pakistan and/or of gross misconduct on the following amongst other grounds:
 - i) that General ® Parvez Musharraf has subverted the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan twice by holding it in abeyance;
 - ii) he has violated and undermined the constitution of the Islamic Republic of Pakistan and derailed the transition to democracy;
 - iii) that in terms of Article 41, Sub- section (1) of the Constitution the Office of the President represents the unity of the Republic, General ® Parvez Musharraf has violated the same and has caused to promote inter provincial tension, a deepened sense of deprivation, denied provincial autonomy thus leading to the weakening of the Federation;
 - iv) that the policies pursued by General ® Parvez Musharraf during the last eight years have brought Pakistan to the brink of a critical political and economic impasse. The incompetence.....

(Interruption)

جناب سپیکر: یہ آپ لوگ Serious ہو جائیں گی۔ فضل اللہ! آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ
Serious ہو جائیں ذرا۔

Mr. Rahimdad Khan (Senior Minister): and failures of his policies has plunged the country into the worst power shortage in its history and brought unprecedented misery upon the people. His policies have paralyzed the Federation and eroded the trust of the Nation in key National Institutions. Moreover, it is a matter of record that General ® Parvez Musharraf has made a public pledge before the nation (and it was widely covered by print and electronic media) that he will doff his uniform by December 31, 2004. But he went back on the promise and betrayed the nation.

- v) that the blatant anti-Pakhtoons Polices of General ® Parvez Musharraf has led to serious economic deprivation and security crises in the Province and FATA. The flawed internal and external polices of his dictatorial regime have resulted in the large scale murder of innocent people of our Province and FATA.

In the light of the above, we hereby call upon General ® Parvez Musharraf to take a vote of confidence from his electoral college or resign in terms of Article-44(3) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan immediately. In case he fails to do so we call upon and urge Parliament to give Notice of impeachment in accordance with Article-47 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Thank you.

(تالیاں / شور)

آوازیں: گو مشرف گو، گو مشرف گو، گو مشرف گو۔۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: آرڈر، آرڈر پلیز۔ پیر صابر شاہ صاحب۔

(تالیاں)

سید محمد صابر شاہ: شکریہ، جناب سپیکر۔ میں مشکور ہوں آپ کا اور اپوزیشن سمیت اس معزز ایون کے تمام ممبران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ابتداء ہم نے صوبہ سرحد کی اسمبلی سے کی اور ایک ڈکٹیٹر کے خلاف قراردادیں پیش ہوئیں اور میں بھی قرارداد پیش کرتا ہوں لیکن جناب سپیکر، پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد جو میرے قائد، قائد اعظم نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ پاکستان کا نظام، جمہوری نظام

ہوگا، اس ملک میں جمہوریت اور صرف جمہوریت ہوگی، اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہوگا لیکن جناب سپیکر، ہماری بد بختی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں ہم اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اپنے رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر بھی بجالانا ہوگا کہ ہم نے یہ ملک قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اس ملک کے اندر آمریت کے ذریعے سے یہاں جمہوریت کا قتل ہوا، چاہے وہ ایوب خان تھے، چاہے وہ یحییٰ خان تھا، چاہے وہ ضیا الحق تھا، چاہے وہ جنرل مشرف تھا، لعنت بھیجتا ہوں تمام ڈکٹیٹرز پر (تالیاں) جنہوں نے پچاس سال پاکستان کی قوم کو، اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جناب سپیکر! میں جانتا ہوں بی بی کے جذبات کو اور میں ان کے جذبات کو سمجھتا ہوں اور جس طرح آج یہ بالکل ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی ہیں، آج پریزیڈنٹ ہاؤس کا۔۔۔۔۔

(تالیاں / شور)

سید محمد صابر شاہ: اور۔ بخوبی اس سے پتہ چلے گا کہ وہاں کیا حالت ہوگی؟ لہذا میں۔۔۔۔۔

(قطع کلام)

سید محمد صابر شاہ: نہیں نہیں، مجھے سنیں، آٹھ سال جنرل مشرف اور اس کے ٹولے نے اس ملک کے عوام کو تڑپایا ہے، اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں، آج انہیں برخواست کرنا ہوگا، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پے در پے اس ملک میں ہماری جمہوریت پر حملے ہوئے لیکن پہلی دفعہ تاریخ کے اندر میں اپنی قیادت کو، میاں محمد نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور جناب اسفندیار ولی خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو کام ساٹھ سالوں میں نہیں ہوا، آج پہلی دفعہ ان جمہوری اداروں سے وقت کے فرعون کے سامنے موسیٰ بن کر کھڑے ہو کر اس کے دروازے پر دستک دی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب سپیکر، میں گزارش کرتا ہوں کہ آج 12 اکتوبر کو یہ اسمبلی جس آمر کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اس آمر نے 12 اکتوبر کو اس ملک کے عوام کی منتخب حکومت، میاں نواز شریف کی دو تہائی اکثریت کی حامل حکومت کو ختم کر کے یہاں پہ آمریت قائم کی اور جناب سپیکر، 12 اکتوبر وہ بد قسمت دن ہے کہ اس ملک میں ایک ایسا جابر، ایک ایسا ظالم اور اس ملک کا ایسا دشمن برسر اقتدار آیا کہ 12 اکتوبر سے ہماری تباہی اور اس ملک کی بربادی کا آغاز ہوا اور آپ نے دیکھا جناب سپیکر، کہ 12 اکتوبر کے بعد اس ملک کے ادارے تباہ ہوئے، 12 اکتوبر کے بعد آج امریکہ ہماری سرحدات پہ کھڑا ہے، آج ساری دنیا کی قوتیں پاکستان اور خصوصاً صوبہ سرحد کو Destabilize کر رہی ہے، آج ہندوستان،

راء، اسرائیل، امریکہ اور دنیا کی تمام پاکستان اور اسلام دشمن قوتیں اس خطے کو Destabilize کر رہی ہیں اور اس-----

ایک آواز: دا پختونخوا ۵۵، پختونخوا۔ دا بہ وی پختونخوا۔ دا بہ پختونخوا۔۔۔۔۔۔

سید محمد صابر شاہ: آج ہمارے اس صوبے کی حالت، آج امن و امان کی صورت حال، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس دن بریفنگ کا اہتمام کیا اور جناب سپیکر، جو نقشہ، جو حقائق اس بریفنگ میں ہمارے سامنے رکھے گئے، آپ یقین کریں کہ جناب سپیکر، اس دن کی بریفنگ کے بعد آج تک رات کے کسی حصے میں بھی میں جاگ کر اس بات پہ سوچتا ہوں کہ خدایا میرا مستقبل کیا ہے؟ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ میری نسلوں کا مستقبل کیا ہے؟ اور ہم نے کس طرح حالات کا مقابلہ کرنا ہے؟ جناب سپیکر، ہماری بد بختی دیکھیں کہ ایک آمر آیا، اس نے ایک ٹیلیفون پر Americans کو ہماری زمین، ہماری فضائی، سمندر کے راستے، انفارمیشن، تمام چیزیں ان کو میاکیں اور پاکستان کو ایسے مسائل سے دوچار کیا اور ہماری بد بختی دیکھیں کہ وہ شخص جس کے خلاف آج قرارداد پیش ہو رہی ہے، جو کہتا ہے کہ بس اس قوم کو اب ختم کرو، یہ سب کچھ، اس شخص نے آج اربوں ڈالروں کے عوض اس ملک کی سیٹیوں کا سودا کیا، امریکہ کے ہاتھ پر ہماری بچیوں کا سودا کیا۔ آج اس نے ہمارے سائنسدانوں کو امریکہ کے ہاتھ فروخت کیا اور خود بیرونی ممالک میں بڑے بڑے جزیرے لیکر وہ وہاں پہ روشن خیالی کو فروغ دینگے اور خود بھی وہاں جائیں گے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی وہاں لے جا کر عیاشیاں کریں گے۔ آج اس ملک و قوم کے ساتھ اس نے جو زیادتیاں کیں ہیں، اس کا حساب یوم الحساب آچکا ہے، آج ہم نے اس کا حساب کرنا ہے لیکن جناب، میں جو گزارش کرتا ہوں کہ ہم یہ قرارداد ضرور پیش کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف فوری طور پہ اقتدار چھوڑ دیں لیکن میں اس ہاؤس کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے یہاں پر پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جے۔یو۔آئی اور دیگر جماعتوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیں اس قرارداد کے پاس کرنے کے بعد ایک اور بات پر بھی متفق ہونا پڑے گا کہ جنرل مشرف کو یہ نہیں کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، میرے قائد نواز شریف نے کھل کر یہ کہا کہ مشرف، تم نے 12 اکتوبر کو میری حکومت کا خاتمہ کیا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم نے مجھے جلاوطن کیا، میں نے معاف کیا، تم نے میری بیوی کو ایک گاڑی میں بٹھا کر اور کرین میں اس کی گاڑی کو اٹھا کر پورے لاہور میں اس کو گمایا اور ہماری عزت کا تم نے تماشنا بنایا، میں اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا مشرف! میں تجھے معاف کرتا ہوں کہ تم نے میرے والد، جس کا جنازہ اٹھ رہا تھا، کو

کنڈھا دینے سے مجھے محروم کیا، میں اسے بھی معاف کرتا ہوں، میں تجھے اس بات پر بھی معاف کرتا ہوں کہ تم ہیلی کاپٹر کی سیڈوں سے باندھ کر چھتیس گھنٹے مجھے فضا میں پھرتے رہے تاکہ میرے اعصاب ٹوٹ جائیں، چلو میں یہ بھی تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن جنرل مشرف! تم مجھے بتاؤ، یہ ساری معافیاں تمہیں مل سکتی ہیں لیکن میں تمہیں جامعہ حفصہ کے معصوم بچوں کے قتل کہ ان معصوم بچوں کو جس طرح تم نے جلایا، قتل کیا، جو ظلم کیا، اس کی معافی تجھے نہیں ملے گی۔۔۔۔۔

ایک آواز: پیر صابر شاہ زینباد۔

سید محمد صابر شاہ: آج ڈاکٹر عافیہ جو ظلم و ستم، جو تمہارے بیٹے نے کروڑوں ڈالر لے کر اس کا سودا کیا، کیا اس کی گناہوں کو معاف کیا جاسکتا ہے؟۔۔۔۔۔

(شور)

سید محمد صابر شاہ: کیا ڈمہ ڈولہ، کیا وزیرستان، سوات، باجوڑ اور یہاں کے مسلمانوں پر جو شیلنگ ہوئی، ڈیزی کٹر بم پھینکے گئے، یہاں پر قتل عام ہوا، بچوں کا، بوڑھوں کا اور مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا جو قتل عام ہوا، کیا اس کو معاف کیا جاسکتا ہے؟ میرے قائد نے کہا کہ میں سارے اپنے جو ظلم تم نے کئے ہیں، معاف کرتا ہوں لیکن میں ان جرائم میں تجھے معاف نہیں کرتا اور میں یہی گزارش کرتا ہوں جناب سپیکر، کہ آج جو قرارداد ہم پاس کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس قرارداد کے بعد تمام قائدین سے میں گزارش کروں گا، نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، اسفندیار ولی خان صاحب سے، زرداری صاحب سے، مولانا فضل الرحمن صاحب سے، دیگر جماعتوں سے کہ جنرل مشرف سے سب پوچھیں اقتدار سے رخصت ہونے کے بعد، قصر صدارت کو اس سے خالی کرانے کے بعد جنرل مشرف کو کوئی راستہ، کوئی اس کے ساتھ رعایت نہ کی جائے بلکہ جنرل مشرف کے خلاف ان ہزاروں بچوں، جنہیں اس نے قتل کیا، جن کو جلایا، جن مساجد پر اس نے حملے کئے، جس طرح پاکستان کے اندر اس نے انتشار پیدا کیا، جس طرح دینی شخص کو اس نے برباد کیا، اسلئے اس پر مقدمہ چلایا جائے آرٹیکل 6 کے تحت بھی اور قتل کے مقدمے درج کر کے اس کو سرعام ایک دفعہ نہیں، تعداد معلوم کی جائے جو پانچ ہزار بچے جامعہ حفصہ کے تھے، جو ڈمہ ڈولہ کے تھے، جو وزیرستان کے بچے، بوڑھے، جوان، ان سب کو جمع کر کے جتنے لوگوں کا قتل کیا ہے، اتنی بار اس ڈکٹیٹر کو پھانسی پر لٹکایا جائے اور کھلے عام چوک میں اسے پھانسی دی جائے۔ (تالیاں) پھر جا کر ہمارا اصل مسئلہ وہ ڈوبتا سورج ہے جناب سپیکر، ہمارا مسئلہ یہ نہیں

ہے کہ جنرل مشرف اقتدار سے ہٹ جائے گا، اس کو دھکے کی ضرورت ہے، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آنے والے وقت میں ڈکٹیٹروں کا راستہ روکنا ہے، آمرانہ راستہ روکنا ہے، آمریت کا راستہ روکنا ہے اور یہی میری گزارش ہوگی اپنی قیادت سے جو آپ کی وساطت سے میں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف کیلئے اتنی سزا کافی نہیں ہے کہ اسے صرف صدارت سے ہٹایا جائے، اس کے خلاف مقدمات قائم کئے جائیں۔ میں مشکور ہوں آپ کا، آپ اس کے حق میں ہیں؟

آوازیں: ہاں بالکل۔

جناب سپیکر: قرارداد کی طرف۔۔۔۔۔

سید محمد صابر شاہ: ہاؤس کے اندر جو میں نے گزارش کی کہ جنرل مشرف کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے، کیا آپ سب اس کے حق میں ہیں؟

آوازیں: ہاں، ہاں۔

سید محمد صابر شاہ: ہاتھ اٹھائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ بڑی مہربانی، تو میں اپنی قرارداد میں اس کو بھی شامل کروں گا جی اور میری قرارداد پڑھنے کے بعد اس بات کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے جنگی جرائم میں، جنگی جرائم میں، جناب سپیکر۔۔۔۔۔

جناب محمد جاوید عباسی: مقدمے کے ساتھ ہی۔۔۔۔۔

(شور)

سید محمد صابر شاہ: جناب سپیکر، جناب سپیکر،۔۔۔۔۔

(شور)

Syed Muhammad Sabir Shah: The NWFP Assembly observes:

1. that under Article-41 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Pakhtoonkhwa/ NWFP Assembly is a part of the electoral college for the election of the Office of the President of Pakistan;
2. that notwithstanding the Pakhtoonkhwa/ N.W.F.P Assembly's objection to the validity or legality of the elections held in October-2007 for the office of the President of Pakistan, we are of the view that General ® Parvez Musharraf is unfit to hold the Office of the President by virtue of being guilty of violating the Constitution of

Pakistan and/or of gross misconduct on the following amongst other grounds;

- ii) that General ® Parvez Musharraf has subverted the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan twice by holding it in abeyance;
- ii) he has violated and undermined the constitution of the Islamic Republic of Pakistan and derailed the transition to democracy;
- iii) that in terms of Article 41, Sub- section (1) of the Constitution the Office of the President represents the unity of the Republic, General ® Parvez Musharraf has violated the same and has caused to promote inter provincial tension, a deepened sense of deprivation, denied provincial autonomy thus leading to the weakening of the Federation;
- v) that the policies pursued by General ® Parvez Musharraf during the last eight years have brought Pakistan to the brink of a critical political and economic impasse. The incompetence and failure of his policies has plunged the country into the worst power shortage in its history and brought unprecedented misery upon the people. His policies have paralyzed the Federation and eroded the trust of the Nation in key National Institutions. Moreover, it is a matter of record that General ® Parvez Musharraf has made a public pledge before the nation (and it was widely covered by print and electronic media) that he will doff his uniform by December 31, 2004. But he went back on the promise and betrayed the nation;
- v) that the blatant anti-Pakhtoons Polices of General ® Parvez Musharraf has led to serious economic deprivation and security crises in the Province and FATA. The flawed internal and external polices of his dictatorial regime have resulted in the large scale murder of innocent people of our Province and FATA.

In light of the above, we hereby call upon General ® Parvez Musharraf to take a vote of confidence from his electoral college or resign in terms of Article 44 (3) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan immediately. In case he fails to do so we call upon and urge Parliament to give Notice of impeachment in accordance with Article 47 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.

یہ میری قرارداد ہے جی اور اس میں میری طرف سے یہ بھی شامل کیا جائے کہ جنرل مشرف کی Impeachment یا استغفہ کے بعد اس کے خلاف جنگی جرائم اور بے گناہ بچوں کا جامعہ حفضہ اور جتنے قبائلی علاقوں میں جو قتل عام ہوا ہے اور جتنے لوگوں کو اس نے فروخت کیا ہے، ان جرائم کے اس کے خلاف مقدمات بھی قائم کئے جائیں۔

جناب بشیر احمد بلور [سینیئر وزیر (بلدیات)]: بگتی صاحب کا قتل بھی، بگتی صاحب کا قتل۔

جناب عبدالاکبر خان: پوائنٹ آف آرڈر، جناب سپیکر۔ اگر اس میں دو باتیں پیر صاحب نے جو Add کئے ہیں، وہ ان قراردادوں میں شامل نہیں ہیں، جو اس سے پہلے پیش ہو چکے ہیں، تو یا تو یہ Amendments، ووٹ پھر الگ ڈالے جائیں گے، یہ قرارداد الگ پاس ہوگا اور وہ قرارداد الگ پاس ہونگے یا ان میں یہ بھی شامل کریں تو پھر اکٹھے Amendments آجائیں گے۔

سینیئر وزیر (بلدیات): سپیکر صاحب-----

Mr. Speaker: as amended.....

سینیئر وزیر (بلدیات): زما بہ درخواست پیر صاحب تہ دا وی چہ دا داسے دریافت شوے دے، دے کبہ نہ زمونہ سرہ تول ہغہ راغلی دی، مشورے سرہ شوے دے، زہ بہ خواست او کرم سپیکر صاحب، پیر صاحب تہ چہ دا مونہ کوم قرارداد چہ پیش کرو چہ دے حمایت او کپی نو دا بہ بنہ وی او باقی کومے خبرے چہ دوی کہے دی، مونہ Politically د دے سرہ Agree یو خودا قرارداد چہ دے، دا مونہ د ہغوی سرہ-----

جناب محمد جاوید عباسی: اس کیلئے علیحدہ قرارداد پیش کریں گے۔

سینیئر وزیر (بلدیات): زما دا خواست دے چہ پیر صاحب د دا واپس داخلہ، خپل د زہ نہ زہ د پیر صاحب دیر شکر گزاریم۔

جناب سپیکر: جناب پیر صاحب۔

سید محمد صابر شاہ: جناب سپیکر، یہ میری گزارش ہے، جو قرارداد اوپر سے آئی ہے، جو ہماری لیڈرشپ نے ڈرافٹ کی ہے، میں اس کے اس پیرامیٹر سے تو باہر نہیں جاتا، جو میرے جذبات ہیں اس کیلئے میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ کم از کم آپ کی قرارداد اس طرح اور میری قرارداد کے ساتھ اس چیز کو بھی پاس کیا جائے تو میرے خیال میں۔۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: یہ Separate دوسری قرارداد میں لے آئیں پھر،

Now the motion before the House

(شور)

جناب سپیکر: این ڈبلیو ایف پی کا نام، اس میں۔۔۔۔۔۔

(شور)

جناب سپیکر: ایک مسئلہ اور بھی ہے، Constitutional مسئلہ، آپ کی Permission کے بغیر Constitution مسئلے کے بعد۔۔۔۔۔۔

(شور)

جناب سپیکر: پختہ خواہ، Constitution میں کوئی ایسا نام نہیں ہے۔

(تالیاں)

سینیئر وزیر (بلدیات): سپیکر صاحب، وہ میں عرض کروں، میرے خیال میں آپ کے علم میں ہو گا کہ ہماری صوبائی اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کی ہوئی ہے اور سپیکر صاحب، آپ سے پہلے سپیکر صاحب کی رولنگ موجود ہے کہ اس کو پختہ خواہ ہم کہہ سکتے ہیں۔۔۔۔۔۔

(شور)

Mr. Speaker: The motion before the House.....

(Interruption)

آوازیں: گو مشرف گو۔ طالبان کا قاتل مردہ باد۔۔۔۔۔۔۔۔

جناب سپیکر: آپ کو دیتا ہوں۔ بیٹھ جائیں۔

The motion before the House is that the identical resolutions moved by the Honourable Ministers and Members may be adopted? Those who are in favour of it may say 'Ayes' and stand up in front of their desks.

سیکرٹری صاحب! کاؤنٹ کریں۔ سیکرٹری! کاؤنٹ کریں۔

Voices: Shame, Shame.

Mr. Speaker: The Resolution is passed by very much majority.

(Applause)

جملہ معزز ممبران صاحبان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سیکورٹی کے پیش نظر کل سے تمام گاڑیاں نشتر ہال میں کھڑی کریں۔ صوبائی اسمبلی کی گاڑیاں بھی نشتر ہال میں کھڑی ہونگی اور جن دوستوں نے مجھے سیلاب پچھت بھینچے ہیں، معزز ممبران صاحبان نے، ان کیلئے کل کا دن رکھا ہے۔

So the sitting is adjourned till 9.30 a.m. of tomorrow morning.

Thank you.

(اسمبلی کا اجلاس بروز بدھ مورخہ 13 اگست 2008ء صبح ساڑھے نو بجے تک کیلئے ملتوی ہو گیا)